

گوگل ایڈسنس: ایک مختصر تعارف

شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو۔ اور شاید ہی ایسا کوئی انٹرنیٹ یوزر ہو کہ جو گوگل کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ انٹرنیٹ کی دنیا پر بادشاہی کرنے والے سرچ انجن کو دنیا ”گوگل“ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ گوگل کہ جو آج سے تقریباً چند ایک سال پہلے شروع کیا گیا تھا، آج آن لائن بزنس میں ای بئے، یا ہو جیسی کمپنیوں کے مد مقابل کھڑا ہے۔ گوگل نے اپنی شروعات سے ہی نیٹ پر موجود چیزوں میں جدت لائی۔ سرچنگ کی دنیا میں ایک انقلاب پنا کر دیا، اور پھر ”جی میل“ کی سہولت لانچ کی تو سب ہمعصر ای میل سروسز منہ بکتی رہ گئیں۔ اور پھر گوگل نے ایک نئی سروس کا اعلان کیا۔ آن لائن ایڈورٹائزمنٹ!

آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ آئیے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروعاتی دور سے ہی لوگوں کو اس بات کی ضرورت پڑتی رہی ہے کہ وہ اپنی ایجاوڈات و پروڈکشنز کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس مقصد کے لئے اخبارات، ٹی وی چینلز پر ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی رہی ہے۔ لیکن جب پوری دنیا کا رجحان انٹرنیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہر طرف انٹرنیٹ راج کرنے لگا، تو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں کو بھی اس کی اہمیت و افادیت کا احساس ہوا۔ انہوں نے دنیا کی مشہور سائنس پر اشتہارات دینے شروع کر دیئے۔ جس سے ان سائنس کا خرچہ بھی نکل جاتا تھا اور ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں کا بھی مطلب پورا ہو جاتا تھا۔ آپ کو شاید جان کر حیرت ہو کہ ”یا ہو“ جتنا بڑے ادارے کا ذریعہ آمدن صرف اور صرف اشتہارات ہی ہیں جو کہ وہ میل باکس اور اپنی ویب سائٹ پر ڈسپلے کرتے ہیں۔

لیکن عام انٹرنیٹ یوزر یا پھر عام ویب ماسٹر کی سائیٹ کے لئے اشتہارات ملنا ابھی بہت مشکل بات تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ ایڈورٹائزمنٹ کی افادیت اور بڑھتی گئی، اور گوگل جیسی سائنس کو بہت سارے اشتہارات ملتے گئے۔ ایسی صورتحال میں گوگل کمپنی نے ایک نئی سروس شروع کی۔ ”گوگل ایڈسنس“ اینڈ ”گوگل ایڈورڈز“ یہ دوسرے دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایڈسنس میں لوگ اشتہارات حاصل کر کے اپنی سائنس

پر لگاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ جبکہ ایڈورڈز میں ایڈورٹائزر کمپنیاں اپنے اشتہارات دیتی ہیں جو کہ پھر ایڈسنس یوزرز کی سائٹ پر ڈسپلے ہوتے ہیں۔

گوگل اپنے یوزرز کو Pay-Per-Click یعنی فی کلک کے پیسے دیتی ہے۔ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایڈورٹائزر کمپنی گوگل کو اشتہار دیتی ہے۔ پھر گوگل وہ اشتہار کوڈ کے ذریعے (جو کہ آپ کی سائٹ کے ہیجز میں انسٹڈ ہوتا ہے) اُس اشتہار کو آپ کی سائٹ پر ڈسپلے کرتا ہے۔ پھر ویب سائٹ کے وزیٹرز آپ کی ویب سائٹ کے ذریعے اُس اشتہار پر کلک کرتے ہیں۔ اس طرح گوگل کو بھی کچھ فیصد کمیشن مل جاتی ہے اور آپ کو بھی منافع مل جاتا ہے۔

اگلے ٹاپک میں ہم آپ کو گوگل ایڈسنس کے لئے اپلائے کرنے کا طریقہ کار اور اس کی Requirements بتائیں گے۔

”گوگل ایڈسنس“ پر اپلائے کرنے سے پہلے کیا چیزیں ضروری ہیں؟

اس سے پچھلے مضمون میں ہم نے گوگل کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کیں۔ ایڈسنس کی اہمیت و افادیت کا تذکرہ کیا۔ اب چونکہ آپ کو اس حوالے سے کچھ حد تک اندازہ ہو چکا ہوگا۔ تو اس لئے آئیے کہ ہم بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے گوگل ایڈسنس کی سروس کے لئے اپلائے کرنے پر بحث کرتے ہیں۔

سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے اُن ضروری چیزوں کا جن کا ایڈسنس کے لئے ہونا بے حد ضروری ہے۔

- ☆ ایک عدد پرو فیشنل ڈیزائنڈ ویب سائٹ یا بلاگ۔
- ☆ انگریزی میں تحریر کردہ بہترین مواد۔
- ☆ آپ کی ویب سائٹ گوگل سرچ انڈکس میں شامل ہو۔

یاد رہے کہ اردو زبان میں موجود ویب سائٹس کو ابھی تک گوگل اشتہارات کے لئے منظور نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ویب سائٹ بنانی نہیں آتی، تب بھی آپ گوگل سے کما سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہزاروں لوگ ”بلاگ“ کے ذریعے کما رہے ہیں۔ کافی ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو مفت میں بلاگ بنانے کی سہولت دیتی ہیں۔ جن میں گوگل کی ہی ایک سائٹ www.blogspot.com یا www.blogger.com بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ www.wordpress.com بھی کافی مشہور ہے۔ آپ ان میں انتہائی آسانی سے ویب بلاگ بنا سکتے ہیں۔ بلاگ کے بنانے کے طریقہ کار آپ کو انٹرنیٹ سے آرام سے مل جائے گا ورنہ گوگل پر سرچ کر لیں آپ کو مکمل طریقہ کار مل جائے گا۔

دوسری اہم بات کہ آپ کی ویب سائٹ پر موجود مواد انگلش زبان میں موجود ہو۔ چونکہ آپ کے پاس اس وقت گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کو ایک عدد ایسی سائٹ یا بلاگ بنانا پڑے گا جو کہ

مکمل انگلش زبان میں موجود ہو۔ گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں اپلائے کرنے کے بعد تقریباً ایک مہینے کے اندر آپ کو اکاؤنٹ مل جائے۔ لیکن اگر ”بلاگ سپاٹ ڈاٹ کام“ کے ذریعے بلاگ بنا کر اپلائے کیا جائے تو پھر ایڈسنس اکاؤنٹ آپ کو جلد ہی مل جائے گا۔ یاد رہے کہ بلاگ کی صورت میں آپ کے بلاگ میں کم از کم 10 سے 15 پوسٹس موجود ہوں اور آپ کا بلاگ 90 دن پرانا ہو۔

اگر آپ کی انگلش بہترین نہیں ہے۔ یا آپ کو انگلش میں تحریر لکھنا نہیں آتی، تب بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ انٹرنیٹ پر ہزاروں ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو کہ آپ کو ہر موضوع پر ہزاروں مصنفوں کی بہترین تحریریں مفت میں مہیا کرتی ہیں جو کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر بھی لگا سکتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک لسٹ یہاں پیش کی جاتی ہے:

<http://www.myarticlezine.com>

<http://www.KeywordAccess.com>

<http://www.1888articles.com>

مزید کے بارے میں آپ گوگل پر سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔

تیسرے نمبر پر اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ یا بلاگ گوگل سرچ انڈکس میں موجود ہو، یعنی کہ اگر کوئی گوگل پر سرچ کرے تو آپ کی سائٹ بھی گوگل سرچ رزلٹس میں دکھائی دے۔ اگر آپ نے کسی فری ویب ہوسٹنگ سائٹ کے ذریعے ویب سائٹ بنائی ہے اور سب ڈومین پر مشتمل ویب سائٹ ہے تو پھر قوی امکان ہے کہ آپ کی سائٹ گوگل سرچ انڈکس میں شامل نہ ہو۔ بلاگز کو گوگل خود بخود انڈکس میں شامل کر لیتا ہے اور ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ اور دیگر ٹاپ لیول ڈومین نیز کو بھی گوگل خود بخود انڈکس میں شامل کر لیتا ہے۔ اگر آپ کی سائٹ کسی فری ہوسٹنگ سرور پر بنائی گئی ہے تو پھر آپ کو اپنے طور سے اپنی سائٹ کو گوگل پر شامل کرانا ہوگا۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی ایسی سائٹ پر اپنا لنک دے دیں کہ جو گوگل پر پہلے ہی سے شامل ہو۔ تقریباً ہفتے کے اندر آپ کی سائٹ بھی گوگل سرچ انڈکس میں شامل ہو جائے گی۔ اس کا بھی بہترین طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ انٹرنیٹ پر موجود Forum Sites پر (کئی اردو فورمز بھی موجود ہیں) اپنی ویب سائٹس کا انٹروڈکشن

یا پھر صرف لنک ہی دے دیں۔ اس طرح آپ کی سائٹ جلد ہی گوگل کے انڈکس میں شامل ہو جائے گی۔
جہاں تک میرے تجربے کی بات ہے، تو پھر میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ شروع میں گوگل ایڈسنس کا
اکاؤنٹ لینے کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ www.wordpress.com یا www.blogspot.com پر
بلاگ بنائیں۔ کیونکہ اس طرح آپ کو بیج ڈیزائن نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ گوگل کی ٹیم اکثر سائٹس کو صرف اس
وجہ سے نامنظور کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیزائن پر فیشنل یا پھر 'گوگل ایڈسنس فرینڈلی' نہیں ہوتی۔ دوسری اہم
بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایڈسنس اکاؤنٹ ملنے کے بعد آپ اپنی ہزاروں سائٹس پر بھی گوگل کے اشتہارات لگا
سکتے ہیں، جن میں اردو سائٹس بھی شامل ہیں۔
یہ تو تھیں گوگل ایڈسنس کے حوالے سے چند مزید گزارشات۔ اب ہم اگلے مضمون میں ایڈسنس پر اپلائے
کرنے کے طریقہ کار کو جانیں گے۔

ایڈسنس کے لئے اپلائے کیجئے! (طریقہ کار)

گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ حاصل کرنے کے لئے ذیل میں ہم آپ کو Step by step طریقہ کار بتائیں گے۔

- 1 - <http://www.google.com/adsense> پر جائیں۔
- 2 - اُس کے بعد ایک پیج کھلیے گا، جس کے آخر میں لکھا ہوگا کہ [Click Here to apply](#)۔ وہاں پر کلک کر کے آپ اکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔

Discover your site's full revenue potential.

Google AdSense is a fast and easy way for website publishers of all sizes to display relevant Google ads on their website's content pages and earn money. Because the ads are related to what your visitors are looking for on your site — or matched to the characteristics and interests of the visitors your content attracts — you'll finally have a way to both monetize and enhance your content pages.

It's also a way for website publishers to provide Google web and site search to their visitors, and to earn money by displaying Google ads on the search results pages.

What is AdSense?

[Quick Tour](#)

Getting started is easy

[Click Here to Apply](#)

3 - جیسے ہی آپ اپلائے کے لئے کلک کریں گے تو فارم پر مشتمل ایک نیا فارم کھلے گا۔ نیچے اس کی سکرین شاٹ دکھائی جا رہی ہے۔

Welcome to AdSense [What is AdSense?](#) | [Already have an account?](#)

Please complete the application form below.

Website Information

Website URL: [?]

- Please list your primary URL only.
- Example: [www.example.com](#)

Website language:

- Tell us your website's primary language to help us

Contact Information

Account type: [?]

Country or territory:

! Important - Your payment will be sent to the address below. Please complete address, such as a full name, full street name and house or apartment number, city. [Example.](#)

Payee name (full name):

- Your Payee name needs to match the name on y
- Payee must be at least 18 years of age to participate

Address line 1:

Address line 2 (optional):

City:

State, province or region:

Zip or postal code:

ویب سائٹ URL کی جگہ پر وہ ویب سائٹ لکھیں جس کے لئے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہوں۔ ایک سے زیادہ ویب سائٹس ہونے کی صورت میں کسی بھی بہترین سائٹ کا انتخاب کر کے وہی اس باکس میں لکھیں۔ ویب سائٹ لینکونج میں "انگلش" سلیکٹ کر لیں۔

Contact Information کے سیکشن میں سے "اکاؤنٹ ٹائپ" میں Individual کوسلیکٹ کریں۔ اور پھر اگلے باکس میں ملکوں کی لسٹ میں سے "پاکستان" کوسلیکٹ کر لیں۔

اور اس کے بعد باری آتی ہے Payee Name کی۔ یاد رہے کہ گوگل اسی نام پر آپ کی پے منٹ "چیک" کی صورت میں جاری کرے گی۔ اس وجہ سے اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے یا ابھی تک آپ کا

شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو پھر بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کسی بڑے کا نام لکھیں۔
اور اس کے بعد ایڈریس لکھیں۔ Payee Name اور ایڈریس لکھتے وقت محتاط رہیں کیونکہ یہ معلومات
بعد میں آسانی سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایڈریس کے بعد شہر کا نام، صوبہ، پوسٹل کوڈ دیجئے۔
اس طرح مکمل فارم پُر (فیل) کرنے کے بعد آپ کو ایک Thank You میسج ملے گا۔
اُس کے کچھ دیر بعد آپ کو گوگل کی طرف سے ایک ای میل ملے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا
فارم جمع کر دیا گیا ہے اور تمام جلد آپ کی سائٹ چیک کر کے اکاؤنٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔
چند دنوں سے چند ہفتوں کے اندر آپ کو گوگل کی طرف سے ایک اور ای میل ملے گی۔ جس میں کہا جائے گا
کہ آپ کی ویب سائٹ منظور کر دی گئی ہے اور آپ کو ایڈسنس اکاؤنٹ مل جائے۔
کسی بھی مشکل کی صورت میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0332-3895458
مہربانی!

ایڈسنس کی آٹھ بہترین ٹپس

گوگل ایڈسنس کو دنیا بھر آن لائن کمائی کے ایک بہترین سوس کے طور پر بہت رونمائی مل رہی ہے۔ ای بے اور دوسرے Affiliate پروگرامز کو بھول جائیے۔ ایک ماں گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی رقم Xtra کمارہی ہے صرف گوگل ایڈسنس کے ذریعے۔ یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو سنجیدگی سے لیں۔ آپ کے اندر میں ایک قسم کی میانہ روی ہو۔ آپ میں صبر کا مادہ ہو۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ شروعات میں گوگل ایڈسنس کے ذریعے آپ کی کمائی اتنی زیادہ نہ ہو۔ شاید اتنی بھی نہ کہ جس سے آپ کے انٹرنیٹ کا خرچہ نکل سکے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر دکھ کے بعد ہی سکھ آتا ہے۔ پہلے پہل کچھ تکالیف ہر کاروبار میں اٹھانی پڑتی ہیں۔

اپنے موضوع پر آنے سے پہلے مائیکروسافٹ کمپنی کے بانی ”بل گیٹس“ کی ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں۔ بل گیٹس نے کبھی کہا تھا کہ ”اگر اس صدی میں آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔۔۔ لیکن اگر اس صدی میں آپ غریب مرجائیں تو یہ آپ کی غلطی ہوگی!“

آج دنیا ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اسی طرح کمانے کے بھی کئی نئے اور عجیب و غریب طریقے وجود میں آچکے ہیں۔ انہی میں گوگل ایڈسنس بھی ایک ہے۔

کیا آپ کی گوگل ایڈسنس کے ذریعے کمائی بہت کم ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ آخر اس میں کیا وجوہات ہیں؟ تو پھر ذیل میں ہم چند پوائنٹس لکھتے ہیں۔ دیکھئے کہ کہیں آپ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کمائی ضائع تو نہیں کر رہے ہیں۔

☆ کوشش کیجئے کہ جو کلر (رنگ) آپ کے ویب پیج کا ہو، گوگل ایڈز کا بھی وہی رنگ منتخب کریں۔ اور اس کی

بھی کوشش کریں کہ ایڈز کے چاروں طرف فریمز بھی سلیکٹ نہ کریں۔ ہیڈنگ کلر کو منتخب کرتے وقت اپنے پیج کے ہیڈنگ کلر کو مد نظر رکھیں۔ عام ٹیکسٹ کے لئے وہی رنگ اور وہی فونٹ منتخب کریں جو آپ کی ویب سائٹ پر عام ٹیکسٹ کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

☆ کوشش کیجئے کہ زیادہ لمبے ایڈز جیسے نیچے کی طرف یا vertically لمبے تصویر یا ایڈز استعمال نہ کریں کیونکہ کافی لوگوں کو اس طرح کے اشتہارات چڑلاتے ہیں۔

☆ کوشش کیجئے کہ گوگل کی اپنی آپٹیمائزیشن (Optimization) ٹپس استعمال کریں کہ گوگل ایڈسنس کے کوڈ کو کہاں انسٹ کریں۔ گوگل آپٹیمائزیشن ٹپس اس لنک پر موجود ہیں:
<https://www.google.com/support/adsense/bin/static.py?page=tips.html>

☆ اپنی ویب سائٹ کے لئے بہترین کی ورڈز (Keywords) کی تلاش کریں۔ کیونکہ جس قدر آپ کی سائٹ پر کی ورڈز کامیاب اور زیادہ مشہور ہوں گے، اتنا ہی فی کلک آمدنی زیادہ مل سکتی ہے۔

☆ کوشش کیجئے کہ گوگل کے ایڈ یونٹس (Google Ad Units) کو ایسی جگہوں پر انسٹ کریں جہاں لنکس وغیرہ موجود ہوں۔ لنکس اور ایڈ یونٹس میں زیادہ فرق نظر نہ آئے۔

☆ کوشش کیجئے کہ گوگل کے نئے 4 اور 5 لنک ایڈ یونٹس استعمال کریں کیونکہ عام مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اُن کے Click through Rate (CTR) عام اسٹائل کے اشتہارات سے بڑھ کر ہے۔ آپ گوگل کے تمام ایڈز کے اقسام اور اُن کے لے آؤٹ کو اس لنک پر دیکھ سکتے ہیں:

<https://www.google.com/adsense/adformats>

[Google Ads]

☆ اپنے پیج پر اس قدر گوگل ایڈسنس بھی نہ لگائیے کہ وزیٹرز کو صرف ایڈز ہی نظر آئیں۔ ایڈسنس کو بھی اپنی سائٹ پر مواد اور ڈیزائن کی مطابقت سے انسٹ کیجئے۔

☆ ہر قسم کے ایڈ کے لئے الگ سے Custom Ad Channel استعمال کریں۔ اس طرح آپ کو بھی آرام سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس جگہ پر موجود اشتہار سے زیادہ فائدہ مل رہا اور کس سے کم۔ اس طرح آپ آسانی سے یہ جان سکیں گے کہ آپ کی سائٹ پر کون کون سی جگہیں ایڈسنس کے بہتر ہیں اور یہ بھی کہ ایڈسنس کی کس سائز پر آپ کو زیادہ آمدنی مل رہی ہے۔

گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ بلاک ہونے کی چند بڑی وجوہات

گوگل اپنے صارفین کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کرتا ہے۔ ایک بہترین آمدنی، ایک بہترین سپورٹ سسٹم۔ اور بھی بہت کچھ۔ لیکن اس کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ بھی گوگل کے ساتھ ایماندارانہ رویہ اختیار کریں۔ ہماری عام زندگی کا اصول ہوتا ہے کہ ”جو بوؤ گے، وہی پاؤ گے۔“ اسی پس منظر میں، اگر آپ گوگل کے ساتھ بددیانتی کریں گے، اور گوگل کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر آخر میں آپ ہی کو چھتانا پڑے گا۔

میرے اکثر پاکستانی بھائی اپنی ویب سائٹس پر کئی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جن سے ان کے اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم ان وجوہات کا جائزہ لیں گے، کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جو ایڈسنس اکاؤنٹ کے بلاک ہونے کی باعث بنتی ہیں۔

☆ گوگل کی منع کردہ آسٹم لسٹ پر کوئی بھی چیز ایڈورٹائز نہ کریں۔ لیکن یہ لسٹ پے پال اور اے بے سے بہر حال کم ہی ہے۔

☆ اپنی ویب سائٹ پر کہیں بھی یا کسی اور جگہوں پر کسٹمرز سے ایڈز پر کلک کرنے کا نہ کہیں۔
☆ کبھی بھی گوگل ایڈز اور Competitive Ads کو ایک ساتھ ایک ہی ٹائم ایک ہی پیج پر پبلش نہ کریں۔

☆ اپنے گوگل اشتہار رجسٹریشن پیج، کنفرمیشن یا پھر ”Thank you“ کے پیجز پر نہ لگائیں۔
☆ کبھی بھی اپنی سائٹ پر موجود اشتہارات پر خود کلک کریں۔ یہاں تک کہ چاہے آپ وہ ویب سائٹ چیک کرنا چاہیں یا آپ کو پروڈکٹ خریدنے کا سوچ رہے ہوں۔

☆ گوگل ایڈز کے ارد گرد کبھی بھی دھوکہ دینے والے الفاظ نہ لکھیں۔ جیسے Click Down وغیرہ۔ کیونکہ گوگل بڑی آسانی سے ان تمام الفاظ کو سمجھ سکتا ہے جو کہ ایڈز کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ

[Google Ads]

Sponsored by Advertisements ہی لکھ سکتے ہیں۔

☆ ”کی ورڈز“ سپیمنگ سے بچئے۔
☆ گوگل ایڈسنس کے کوڈ کو کبھی بھی اپنے طور پر تبدیل نہ کریں۔ صرف ان پیرامیٹرز کو ہی چینج کریں جنہیں چینج کرنے کی گوگل اجازت دیتا ہے۔
☆ گوگل کے ساتھ ایماندار رہئے! گوگل آپ کی زندگی بدل دے گا۔):

گوگل ایڈسنس: وارنگ!!!

کلک فراڈ۔۔۔ گوگل کو دھوکہ یا اپنے آپ کو دھوکا؟۔۔ آئیے دیکھتے ہیں کلک فراڈ کو گوگل کس طرح جان لیتا ہے اور کیا کیا چیزیں کلک فراڈ میں شامل ہوتی ہیں اور کن کن نئے طریقوں سے کیئے جانے والے کلک فراڈ جو گوگل کے لئے ٹریس (Trace) کرنا کچھ دشوار نہیں۔

کلک فراڈ کا مطلب یہ ہے کہ بند خود اپنے ایڈز پر کلک کرے اور چند دن گڈ گڈ ہوتا رہے۔ لیکن پھر جب گوگل انہیں ای میل کے ذریعے مطلع کرے کہ مہربان قدر دان! کلک فراڈ کی وجہ سے گوگل آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کرتا ہے۔ امید کہ آپ آئندہ اس قسم کی بے ایمانی سے بچیں گیں۔ خدا حافظ!

جی ہاں۔ کلک فراڈ کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ چند دنوں کے اندر ہی بلاک ہو سکتا ہے۔ آئیے کلک فراڈ کے نئے طریقوں کا جائزہ لیتے ہیں جن کی گوگل ممانعت کرتا ہے۔

☆ شروعاتی معصوم کلک چیت:

اس کا مطلب یہ کہ بند، ابھی گوگل ایڈسنس میں نیا ہے۔ اپنی ویب سائٹ پر موجود گوگل اشتہارات پر خود ہی کلک کرتا ہے۔ اور کبھی گوگل ایڈسنس کے Terms of Services کو پڑھنے کی زحمت نہ کی۔ گوگل آپ کو اس قسم کے عمل سے منع کرتا ہے۔

☆ پراسی کلک چیت (Proxy Click Cheat):

شروعاتی ویب ماسٹر کے بعد اب باری آتی ہے اُس بندے کی، جو کمپیوٹر کے بارے میں اچھا خاصا جانتا ہے۔ اُسے کو کیز اور آئی پی ایڈریس کے بارے میں اچھی خاصی جانکاری ہے۔ وہ ان اصطلاحات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اسے استعمال بھی کرنا جانتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر پراسی سرور یا کسی Anonymizer

سافٹ ویئر کے ذریعے اپنے ایڈز پر کلک کرتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ گوگل آپ کے کلک کو جان نہ پائے گا۔ تو یہ آپ کی خوش فہمی ہی کہلا سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ کیونکہ گوگل ایسی صورتحال میں بھی آپ کی اصل آئی پی ایڈریس معلوم کر لیتا ہے۔

☆ متعدد کمپیوٹر چیٹ (Multiple Computer Click):

اب چونکہ گوگل کو کیڑ اور دیگر ٹولز کے ذریعے ہر طرح سے آپ کے کلک فراڈ کو ”سونگھ“ لیتا ہے۔ تو پھر آپ ایک اور انداز اپنائیں گے۔ اپنے دوست احباب، رشتے داروں اور دیگر جان پہچان کے لوگوں کے ذریعے گوگل ایڈز پر کلک کروائیں گے۔ فرض کریں کہ وہ سب لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں اور اپنے دفتر، گھر اور دیگر جگہوں سے آپ کی ویب سائٹ پر موجود ایڈز پر کلک کرتے ہیں۔ لیکن یقین مانئے کہ گوگل اس قسم کے چیٹ کو بھی لامحالہ طور پر معلوم کر ہی لیتا ہے۔

☆ ایڈز آٹو کلک (Ads AutoClicker):

اب شاید آپ کے ہاتھ کچھ ایسے سافٹ ویئر لگ جائیں جو آٹومیٹکلی آپ کے اشتہارات پر کلک کرتے رہیں۔ یاد رہے ایسے سافٹ ویئر کو Click Bots کہتے ہیں۔ وہ ایک مخصوص پروگرام ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر گوگل ایڈز پر کلک کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں روبوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر آپ کے ویب پیج کو سکین کرتے رہتے ہیں اور پھر چند ہی لمحوں میں آپ کے ایڈز پر کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایڈوانسڈ قسم کے کلک بوٹس آئی پی ایڈریس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں تاکہ گوگل کو بے وقوف بناتے رہیں۔ اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ بہت مشہور نظر آئے۔ اور کچھ آٹو کلک سافٹ ویئر تو اس قدر ہوشیار ہوتے ہیں جو کہ ایڈز پر کلک کرنے کے ساتھ ساتھ ”ایڈورٹائزرز“ کی ویب سائٹ کو بھی چند لمحوں یا منٹوں تک ویب سائٹ کو وزٹ کھلا رہنے دیتے ہیں۔

ان سافٹ ویئر میں اکثر تو اب ناکام ہو چکے ہیں۔ شاید کچھ ابھی تک کامیاب بھی ہوں۔ لیکن یہ بھی کوئی زیادہ موثر طریقہ کار نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے سافٹ ویئر زیادہ عام نہیں ہیں۔ اس لئے ان کا ملنا

بہت مشکل ہوتا ہے۔

★ Paid Manual Clickers Cheat

اگر آپ کو لگے کہ آٹو کلک کا طریقہ کار بھی کامیاب نہیں۔ تو پھر آپ کا شاید اگلا قدم یہی ہو۔ Paid Manual Clickers cheat میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو یا لوگوں کے ایک گروپ کو ماہانہ اپنی آمدنی کا نصف حصہ یا 50 ڈالر ماہانہ مہیا کریں اور وہ لوگ جو کہ انٹرنیٹ سرفنگ میں پیشہ سلازڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کے ایڈز پر کلک کریں گے۔ یہ کام زیادہ تر تیسری دنیا میں ہوتے ہیں جن میں انڈیا، پاکستان، چائنا وغیرہ میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کام انسان خود کرتا ہے، تو وہ لوگ مختلف طریقہ کار سے کلک کرتے ہیں۔ اور زیادہ رقم والے اشتہارات پر کلک کرتے ہیں۔ اور ایڈورٹائزر کمپنیوں پر سائن اپ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر گوگل ایڈز کے رویے کو ٹریس کر لیتا ہے یا پھر اُس کی جڑ کو۔ لامحالہ طور پر گوگل بہر حال آپ کے اس فراڈ کو بھی پہچان لے گا۔ پھر چاہے کچھ دیر سے ہی سہی۔

★ Click Rings cheat کلک رینگ

کسی گروپ کو پیسے دے کر کلک کروانے کی طرح ہی آپ ایک نیٹ ورک کے ذریعے بھی یہی کام کروا سکتے ہیں۔ اکیلے کوئی کام کرتے ہوئے یا پھر کلک پروفیشنل لوگوں سے پیسے پر کلک کرانے کے علاوہ آپ ایسی کمیونٹیز یا لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو ایک معاہدہ کرنا ہوگا کہ وہ لوگ آپ کی ویب سائٹ پر موجود ایڈز پر کلک کریں گے اور آپ اُن کے اشتہارات پر۔ ایک قسم کی ”رنگ“ بنتی جائے گی۔ جیسے جیسے اُس گروپ یا کمیونٹی میں ممبرز بڑھتے جائیں گے آپ کو زیادہ ویب سائٹس پر کلک کرنے پڑیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح کے لوگوں سے ملنے اور انہیں اکٹھا کرنے کے بہت ذریعے ہیں۔ کئی ایسی کمیونٹیز موجود ہیں۔ کچھ کے چیٹ گروپس استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ایم ایس این اور یا ہو چیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تو ایسے سافٹ ویئر بھی وجود میں آچکے ہیں جو اس طرح کے ممبرز کو ڈھونڈ کر ایک کمیونٹی کی صورت دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنا

سارا کام انٹرنیٹ پر کر لیں۔ ڈس کنیکٹ کرنے سے چند منٹ پہلے ویب سائٹس وزٹ کر کے ان کے اشتہارات پر کلک کر لیں۔

☆ نیوز لیٹر، ای بک، ٹول باریا براؤزر ایکسٹینشن چیٹ:

اگر آپ کے پاس ہزاروں ای میل ایڈریسیں موجود ہیں تو پھر آپ گوگل ایڈسنس کو نیوز لیٹر میں شامل کر کے ایک ہی ”وارن“ (دفعہ) میں کئی کلک کر سکتے ہیں۔ یا پھر کسی بک، یا ٹول بار کے ذریعے یا پھر براؤزر ایکسٹینشن کے ذریعے بھی آپ کو کلک کے بندل باندھ سکتے ہیں۔ پر سب کے سب غیر قانونی۔ کیونکہ گوگل ایڈسنس کے TOS میں ان چیزوں کی سختی سے منع کی گئی ہے۔ اور اس قسم کے چیٹ کو گوگل بڑی آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔

☆ وزیر چیٹ (معنی خیر لفظوں سے):

اپنے گوگل کے اشتہارات کے اوپر یا ساتھ میں لکھنا کہ "Please visit my sponsors" یا "Check out these ads" جیسے الفاظ لکھنا بھی ایک طرح کا چیٹ ہے، جس سے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو سکتا ہے اور آپ کی کمائی ہوئی پونجی ضائع ہو سکتی ہے۔

یہ تو تھے، چند طریقے جنہیں استعمال کرتے ہوئے آرام سے اپنا گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاسکتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد یہ سنتے بھی ہوں کہ کئی لوگ یہ طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن میری رائے آپ کو یہی ہوگی کہ ایسے طریقوں کے استعمال سے کنارہ کشی کریں اور کوشش کریں کہ جتنا بھی کمائیں ایمانداری سے کمائیں۔

”بلاگ“ کی ضرورت پڑے گی۔ www.blogger.com یا پھر www.blogspot.com پر جا کر اپنا اکاؤنٹ بنائیے۔ کوئی سی بھی Theme پسند کریں، اور اس میں پوسٹنگ کرتے رہیں۔ اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں تو پھر انٹرنیٹ پر موجود انگلش مواد (جو کہ آپ کے بلاگ کے نام کے حساب سے بہتر لگتا ہو) اپنے بلاگ پر ایڈ کریں۔ آپ ”فری آرٹیکل سائٹس“ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ بلاگ میں تقریباً 15 پوسٹس کریں۔ کوشش کریں کہ بلاگ تقریباً ایک مہینہ پرانا ہو۔ اگر 90 دن پرانے بلاگ کے ذریعے اپلائے کیا جائے تو پھر کیا ہی بات ہے! کیونکہ ایک بنا یا دوسرے دن اپلائے کیا، تو اس طرح بات نہیں بنتی۔

ایک مرتبہ ایڈسنس اکاؤنٹ ملنے کے بعد آپ گوگل ایڈسنس کے اشتہارات اپنی ہر ویب سائٹ پر لگا سکتے

ہیں۔

گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ جلد حاصل کیجئے!

[Ad Unit]

گوگل ایڈسنس میں اگر آپ عام طور پر کسی ویب سائٹ کے لئے اپلائے کریں گے، تو تقریباً 2 سے 4 ہفتے تک لگ جاتے ہیں صرف اکاؤنٹ ملنے میں۔ کیونکہ گوگل کمپنی کے انجینئرز آپ کی ویب سائٹ کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ سائٹ گوگل ایڈسنس کے معیار پر پوری اترتی ہے کہ نہیں۔
آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی۔

دوسرے دن گوگل ایڈسنس کے لئے <http://www.google.com/adsense> پر جا کر اپلائے کیا۔

ایک دو دن میں آپ کے کنفرمیشن (Confirmation) ای میل ملی۔ آپ نے اپنی ای میل ایڈریس کنفرم بھی کروادی۔

اب چوتھا دن گذر گیا۔ پانچواں دن بھی گذر گیا۔ یوں ایک ہفتہ۔۔۔ دوسرا ہفتہ۔۔۔ اور تیسرے ہفتے آپ کو گوگل کی طرف سے ای میل ملی۔

آپ بہت خوش ہوئے۔ جلدی سے اُس میل کو اوپن کیا۔ وہ کچھ اس طرح کی تھی۔۔

Google AdSense Account Status

Hello [your name],

Thank you for your interest in Google AdSense. After reviewing your application, our program specialists have found that it does not comply with our policies. Therefore, we're unable to accept you into Google AdSense at this time.

We did not approve your application for the reasons listed below. If you are able to resolve these issues, please feel free to reply to this email for reconsideration when you have made the changes.

Issues:

- Under construction

Further detail:

Under construction: In order to assess your site's eligibility, we require websites to be launched and navigable before being considered for the AdSense program. Upon reviewing your site, we found that many of your site's pages are incomplete or under construction. Please email at adsense-support@google.com when your site is complete. We'll be happy to reconsider your application at that time.

For a complete list of AdSense criteria, please visit:

https://www.google.com/adsense/policies?hl=en_US

https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=en_US

If you would like to submit another website for consideration, simply reply to this email and provide us with the URL. If this new website complies with our program policies, we will help you start delivering Google ads in minutes.

Please contact us at adsense-support@google.com if you have any questions.

Regards,

The Google Team



مختصراً یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ نام منظور کر دیا گیا ہے۔ کچھ دوسرے بھی Common Issues یہ بھی

ہوتے ہیں:

Issues:

- Sensitive content
- Difficult site navigation
- Inappropriate language

لیکن جناب! گھبرائیے نہیں۔ کیونکہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انٹرنیٹ پر بلاگ بہت تیزی سے نہایت ہی مشہور ہو رہے ہیں۔ اور تیزی سے ایڈسنس اکاؤنٹ حاصل کرنے کے لئے آپ کو صرف ایک عدد

”بلاگ“ کی ضرورت پڑے گی۔ www.blogger.com یا پھر www.blogspot.com پر جا کر اپنا اکاؤنٹ بنائیے۔ کوئی سی بھی Theme پسند کریں، اور اُس میں پوسٹنگ کرتے رہیں۔ اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں تو پھر انٹرنیٹ پر موجود انگلش مواد (جو کہ آپ کے بلاگ کے نام کے حساب سے بہتر لگتا ہو) اپنے بلاگ پر ایڈ کریں۔ آپ ”فری آرٹیکل سائٹس“ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ بلاگ میں تقریباً 15 پوسٹس کریں۔ کوشش کریں کہ بلاگ تقریباً ایک مہینہ پرانا ہو۔ اگر 90 دن پرانے بلاگ کے ذریعے اپلائے کیا جائے تو پھر کیا ہی بات ہے! کیونکہ ایک بنایا دوسرے دن اپلائے کیا، تو اس طرح بات نہیں بنتی۔

ایک مرتبہ ایڈ سینس اکاؤنٹ ملنے کے بعد آپ گوگل ایڈ سینس کے اشتہارات اپنی ہر ویب سائٹ پر لگا سکتے

ہیں۔